



## AUSTRALIAN HIGH COMMISSION ISLAMABAD

12 January 2017

### Press Release

## بیٹر کاٹن انیشیٹیو اور کاٹن آسٹریلیا کا پاکستانی کپاس کے کاشت کاروں کی تربیت کے لئے تعاون

آسٹریلیا کی حکومت، کاٹن آسٹریلیا اور بیٹر کاٹن انیشیٹیو (BCI) نے 2017 میں کپاس کے موسم کے آغاز کے ساتھ تقریباً 225,000 پاکستانی کپاس کے کاشت کاروں کی تربیت کے لیے شراکت داری کا آغاز کیا ہے۔

یہ شراکت داری عملی اوزار اور پائیدار کپاس کی پیداوار کے لئے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ معیار کی یقین دہانی کے ساتھ ماحولیاتی اور جدید طریقوں پہ مشتمل ہے۔ بہتر، ماحولیاتی، سماجی اور اقتصادی فوائد پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستانی کسانوں کو کپاس کی بوائی اور بہتر کپاس کے معیاری نظام میں تربیت دی جائے گی۔

کپاس پاکستان کے لئے ایک اہم برآمد ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس کا چوتھا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس شراکت داری کا مقصد پریمیم انٹرنیشنل کاٹن مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔

آسٹریلیا کی حکومت نے اس منصوبے کے لئے آسٹریلوی امدادی پروگرام - بزنس پارٹنرشپ پلیٹ فارم - کے ذریعے AUD500,000 کا ارتکاب کیا ہے۔ مزید، بی سی آئی (BCI) نمو اور انوویشن فنڈ کے ذریعے AUD2.4 ملین فراہم کئے جائیں گے۔

پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمز نے اس اجراء کا خیر مقدم کیا۔

"یہ پارٹنرشپ کاٹن آسٹریلیا اور آسٹریلیا میں کپاس کے کاشت کاروں کے ساتھ مل کر کام کریں گی، جو پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ان کا دنیا بھر میں معروف طرز عمل، مہارت اور تجربے کا اشتراک کریں گے۔

آسٹریلوی کپاس کے طرز عمل کو فروغ دے کر ہم پاکستان میں کپاس کی عالمی ساکھ کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ جس سے پاکستان میں روئی کے مستقبل کا تحفظ بھی ہوگا " محترمہ ایڈمز نے کہا۔

یہ نمو اور انوویشن فنڈ ایڈیڈاس، ایچ اینڈ ایم، آنکیا، لیوی اسٹراس اینڈ کمپنی، مارکس اور سپینسر، کاٹن آن، ٹیسکو، سینسبریز، ٹومی ہل فیگر اور نائکی کے تعاون سے جمع کیا گیا ہے۔

یہ شراکت داری دنیا کے سب سے بڑے کپاس پائیداری پروگرام، بی سی آئی، دنیا کی سب سے بڑی خوردہ برانڈز کے تعاون سے پائیدار کپاس کے استعمال کے لئے اہم اہداف کے لئے مصروف عمل ہے۔

بی سی آئی کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور فنڈ مینیجر، آئی ڈی ایچ پائیدار تجارت انیشی ایٹو، اسٹریٹجک حمایت فراہم کرے گا اور اس کے ذریعے ایسا ماحول تیار کیا جائے گا جس میں معاشی اور سماجی پائیدار انداز کی کپاس کی پیداوار اور بہتر کپاس مارکیٹ ڈمانڈ کو، پاکستان میں مہارت کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے سپورٹ کیا جائے۔

For more information on this partnership visit: <http://www.thebpp.com.au>;

Better Cotton Initiative: <http://bettercotton.org/>;

Growth & Innovation Fund: <https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/growth-innovation-fund/>;

Cotton Australia: <http://cottonaustralia.com.au/>

Or contact: Australian High Commission's Media and Public Diplomacy at [bushra.naz@dfat.gov.au](mailto:bushra.naz@dfat.gov.au)

Contact: Bushra Naz, Media and Public Diplomacy, [bushra.naz@dfat.gov.au](mailto:bushra.naz@dfat.gov.au)